

**NYC آفس آف سول جسٹس پروگرامز بے دخلی کا سامنا کرنے والے
کرایہ داروں کے لیے قانونی خدمات تک یونیورسل رسائی فراہم کرنے
کے لیے ہے**

2017 میں، نیو یارک سٹی کونسل نے مقامی قانون 136 پاس کیا، جس کو اب NYC ایڈمنسٹریٹو کوڈ کے ٹائٹل 26 کے باب 13 کے بطور کوڈ کیا گیا ہے، جو نیو یارک سٹی کے تاریخی مشاورت کے حق سے متعلق قانون کے بطور بھی معروف ہے، جو ہاؤسنگ کورٹ میں بے دخلی کا یا نیو یارک سٹی ہاؤسنگ اتھارٹی (NYCHA) کی انتظامی کارروائیوں میں کرایہ داری کے خاتمے کا سامنا کرنے والے کرایہ داروں کے لیے قانونی خدمات تک رسائی فراہم کر کے آفس آف سول جسٹس (Office of Civil Justice, OCJ) کا کام کرتا ہے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ سول جسٹس کے رابطہ کار (Civil Justice Coordinator) ان پروگراموں کے بارے میں سفارشات اور تاثرات موصول کرنے کے لیے ایک سالانہ میٹنگ کا اہتمام کریں۔

سماعت کب اور کہاں پر ہے؟

**جمعہ، 24 فروری، 2023
شام 6 بجے تا 9 بجے رات
COVID-19 کے سبب، سماعت فاصلاتی طور پر Zoom کے ذریعے ہوگی**

میں کس طرح شرکت کر سکتا ہوں؟

کوئی بھی عوامی سماعت میں آن لائن یا بذریعہ فون شرکت کر سکتا ہے۔ قانونی خدمات تک عالمگیر رسائی (Universal Access to Legal Services) پروگرام کی بابت آپ درج ذیل کی معرفت تبصرے یا تاثرات فراہم کر سکتے ہیں:

عوامی سماعت



آپ 23 فروری، 2023 کو یا اس سے پہلے **929-221-5662** پر کال کر کے یا civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر کے عوامی سماعت میں بولنے کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ مقررین نے جس ترتیب میں سائن اپ کیا اسی ترتیب میں انہیں بلایا جائے گا اور آپ تین منٹ تک بول سکتے ہیں۔

آن لائن (ویڈیو اور آڈیو):

Zoom.us پر جائیں۔ "میٹنگ میں شامل ہوں" پر کلک کریں۔ میٹنگ آئی ڈی **852 9830 6596** اور پاس کوڈ درج کریں: **DSS**

بذریعہ فون (صرف آڈیو):

326620 اور پاس کوڈ: **852 9830 6596** پر کال کریں۔ پوچھے جانے پر، میٹنگ آئی ڈی درج کریں: **852 9830 6596**

Office of Civil Justice / ATTN:
(HEARING COMMENTS)
NYC DSS Office of Legal Affairs
150 Greenwich Street, 38th Floor
New York, NY 10007

ڈاک آپ تحریری تبصرے درج ذیل پتہ پر ڈاک سے بھیج سکتے ہیں:



ای میل آپ تحریری تبصرے civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔

براہ کرم اپنی ای میل کی موضوع والی سطر میں "سماعتی تبصرے" Hearing Comments لکھیں



تحریری تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 فروری 2023 ہے

اگر آپ کو سماعت میں شرکت کرنے کیلئے مدد کی ضرورت ہے، جیسے مترجم یا معذوری کی وجہ سے مناسب سہولت تو، آپ کو ہمیں **23 نومبر 2023** تک ضرور بتانا چاہیے۔ آپ ہمیں **929-221-5662** پر کال کر سکتے ہیں؛ civiljustice@hra.nyc.gov پر ای میل کر سکتے ہیں؛ یا مذکورہ بالا پتہ پر بذریعہ ڈاک ہمیں بتا سکتے ہیں۔

سماعت کی ایک نقل حرفی سماعت کے چند ہفتے بعد، OCJ کی ویب سائٹ، nyc.gov/civiljustice پر عوام کو دستیاب کرائی جائے گی۔

مزید معلومات کے لیے، OCJ کی ویب سائٹ، nyc.gov/civiljustice ملاحظہ کریں